



## 93845 – کیا فطرانہ اپنی خالہ کو دے سکتا ہے؟

سوال

کیا میرے لیے اپنی طلاق یافته خالہ کو فطرانہ دینا جائز ہے، اس کے بیٹھے کوئی نہیں، بلکہ بیٹھا شادی شدہ ہیں، اور اس کی ملکیت میں نصف ایکڑ زمین بھی ہے، اور روزی کا کوئی ذریعہ نہیں، تو کیا میں زکاۃ انہیں دوں یا کسی اور فقیر کو تلاش کروں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

فطرانہ کے مصارف میں علماء کرام کا اختلاف ہے، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ: زکاۃ کے آٹھ مصارف میں سے کسی ایک کو بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فطرانہ زکاۃ کے آٹھ مصارف میں تقسیم کر کے ادا کرنا واجب ہے، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ: فطرانہ صرف فقراء اور مساکین کے ساتھ ہی خاص ہے۔

الموسوعة الفقهية میں درج ہے:

"فطرانہ کے مستحقین کے متعلق فقهاء کرام کی تین آراء پائی جاتی ہیں:

جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ: زکاۃ کے آٹھ مصارف میں سے کسی ایک کو فطرانہ دینا جائز ہے۔

اور مالکیہ - اور امام احمد سے بھی ایک روایت میں جسے ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فطرانہ صرف فقراء اور مساکین میں ہی تقسیم کیا جائیگا۔

اور شافعی حضرات کہتے ہیں کہ زکاۃ کے آٹھ مصارف پر فطرانہ تقسیم کیا جائیگا، یا ان میں سے جو بھی پایا جائے "انتہی"۔

دیکھیں: الموسوعة الفقهية ( 344 / 23 ) .

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پہلا اور تیسرا قول رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ: فطرانہ کا تعلق بدن کے ساتھ ہے،



نہ کہ مال کے ساتھ، شیخ الاسلام مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں:

" اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلہ اور کہانا فرض کیا ہے، جیس طرح کفارے میں غلہ واجب کیا ہے، اور اس قول کی بنا پر فطرانہ بھی صرف اسے ہی دیا جائیگا جسے کفارہ کا غلہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنی ضرورت و حاجت کی بنا پر لینے والے ہیں، چنانچہ فطرانہ نہ تو تالیف قلب کے لیے، اور نہ ہی غلام آزاد کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی اور کے لیے دینا جائز ہو گا، اور یہ سب سے قوى الدليل ہے۔

اور ضعیف ترین قول اس شخص کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ: ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ فطرانہ بارہ، یا اٹھارہ، یا چوبیس، یا بیس، یا اٹھائیس وغیرہ کو ادا کرے؛ کیونکہ یہ چیز عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے طریقہ کے خلاف ہے، اور پھر خلفاء راشدین، اور صحابہ کرام کے کسی بھی دور کسی مسلمان شخص نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس دور میں تو مسلمان اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرانہ ایک ہی مسلمان شخص کو دیتا تھا۔

اور اگر وہ دیکھتے کہ ایک صاع دس سے بھی زیادہ افراد میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک شخص کو ایک چلو بھر دیا جا رہا ہے تو وہ اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیتے، اور اسے بدعت منکرہ، اور قبیح افعال میں شمار کرتے؛ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہجو، یا جو کا ایک صاع، اور گندم کا ایک یا نصف صاع فرض کیا ہے، جتنا ایک مسکین کو کافی ہو، اور عید کے روز مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا تا کہ وہ اسے حاصل کر کے مستغنى ہو جائیں۔

اور اگر مسکین ایک مٹھی بھر غلہ لے تو اسے اسکا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ کسی موقع پر، اور اسی طرح اگر کسی مسافر پر قرضہ ہو تو ایک مٹھی بھر غلہ ملے تو وہ اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے..... شریعت ان برعے افعال سے پاک ہے جسے کوئی دانشور اور عقلمند پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی امت کے سلف اور آئمہ میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہے۔

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان:

" مسکینوں کے لیے کہانا ہے "

یہ اس کی نص ہے کہ یہ مسکینوں کا ہی حق ہے، جس طرح ظہار کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:  
تو وہ ساتھ مسکینوں کو کہانا کھلائے ۔

تو جب یہ کفارہ زکاۃ کے آٹھ مصارف میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ت واسی طرح فطرانہ بھی ان میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا " انتہی مختصراً ۔



دیکھیں: مجموع الفتاوی الکبری ( 25 / 73 - 78 ) .

اس بنا پر ان تین اقوال میں سے راجح دوسرا قول ہے، وہ یہ کہ: فطرانہ فقراء و مساکین کو دینا واجب ہے، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسے ہی راجح قرار دیا ہے، جیسا کہ انکی کتاب "الشرح الممتع" ( 6 / 117 ) میں درج ہے۔

دوم:

اور مال کی زکاۃ اور فطرانہ مستحق قریبی رشته داروں کو دی جائے تو یہ دوسروں کو دینے سے افضل و بہتر ہے، اور زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، تو اس طرح یہ زکاۃ اور صلہ رحمی دونوں چیزوں شمار ہونگی، لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ وہ قریبی رشته دار ان افراد میں شامل نہ ہوتا ہو جن کا نفقہ اور خرچ زکاۃ دینے والے کے نمہ واجب ہو۔

شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال کیا گیا:

قریبی فقراء و مساکین رشته داروں کو فطرانہ دینے کا حکم کیا ہے ؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

آپ کے لیے فطرانہ اور مال کی زکاۃ اپنے قریبی فقراء رشته داروں کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی اور شخص کی بجائے قریبی رشته دار کو فطرانہ اور زکاۃ دینی زیادہ بہتر اور اولی ہے؛ کیونکہ رشته داروں کو دینا صلہ رحمی اور صدقہ دونوں شمار ہونگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسے اپنا مال بچانے کے لیے نہ دے، وہ اس طرح کہ اگر وہ فقر رشته دار ان میں شامل ہوتا ہو جن کا خرچ اور نفقہ زکاۃ دینے والے پر واجب ہو، یعنی: اس غنی اور مالدار شخص پر۔

کیونکہ اس حالت میں یہ جائز نہیں کہ وہ اس کی ضرورت اپنی زکاۃ سے پوری کرے، لیکن اگر اسکا خرچ و نفقہ اس کے نمہ واجب نہیں تو وہ اسے اپنی زکاۃ دے سکتا ہے، بلکہ قریبی رشته دار کو زکاۃ دینا کسی اور شخص کو دینے سے افضل اور بہتر ہے؛ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

آپ کا اپنے قریبی کو زکاۃ اور صدقہ دینا صلہ رحمی اور صدقہ دونوں ہیں "انتہی"۔

دیکھیں: فتاوی الشیخ ابن عثیمین ( 18 ) سوال نمبر ( 301 ) .

خلاصہ یہ ہوا کہ:

اگر تو آپ کی خالہ فقیر اور محتاج ہے، اور زکاۃ کی مستحق ہے، تو اسے دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نصف ایکڑ

زمین کی مالک ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے لیے افضل تو یہ ہے کہ وہ زمین فروخت کر کے لوگوں کے احسان کے بوجہ سے مستغنى ہو سکتی ہے۔

مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ اسکا کوئی قریبی رشتہ دار غریب و محتاج ہو، اور رمضان المبارک ختم ہونے کے قریب ہو تو وہ رمضان کے آخر میں اسے ایک صاع غله دینے کی فرصت تلاش کرتا پھرے، بلکہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ عمومی طور پر ہر وقت محتاج اور فقیر لوگوں کا خیال رکھے، اور انکی ضروریات مال و کھانا، اور لباس وغیرہ فراہم کرنے میں جلدی کرے، اور مالداروں پر تو حتما فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے غریب و محتاج رشتہ داروں کا خیال کریں۔

والله اعلم ۔